

21st Meeting of the Working Mechanism for Consultation & Coordination on India-China Border Affairs

March 12, 2021

بھارت چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے کیلئے ورکنگ میکانزم کا 21 واں اجلاس

12 مارچ، 2021

1. بھارت-چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے کیلئے ورکنگ میکانزم (ڈبلیو ایم سی سی) کا 21 واں اجلاس 12 مارچ 2021 کو منعقد ہوا۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری (مشرقی ایشیا) نے کی، جبکہ چینی وفد کی قیادت چینی وزارت خارجہ کے ماتحت ہاؤنڈری اور سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کی۔
2. دونوں فریقین نے مغربی سیکٹر میں لائن آف ایکچول کنٹرول (ایل اے سی) پر صورتحال کا جائزہ لیا، اور مغربی سیکٹر میں ایل اے سی کے باقی معاملات پر گہرائی سے بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پینگونگ جھیل کے شمالی اور جنوبی کنارے میں پیچھے ہٹنے کی تکمیل سے دونوں فریقوں کو ان بقیہ امور کے جلد حل کے لئے کام کرنے کی ایک اچھی بنیاد فراہم کی۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ ماسکو میں گذشتہ سال ستمبر میں دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور گذشتہ ماہ ان کی حالیہ فون گفتگو سے بھی، دونوں فریقین کے کام کی رہنمائی جاری رہنا چاہئے۔ دونوں فریقین کو جلد از جلد تمام متنازعہ پوائنٹس سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنے کو باہمی قابل قبول حل تک پہنچنے کے لئے بات چیت جاری رکھنی چاہئے۔ اس سے دونوں فریقین کو علاقے میں فوجیوں کے وسیع پیمانے پر کشیدگی کم کرنے پر غور کرنے اور سرحدی علاقوں میں امن وامان کی بحالی کی طرف کام کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ عبوری طور پر دونوں فریقوں کو زمینی سطح پر استحکام برقرار رکھنا چاہئے، اور کسی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کرنا چاہئے۔
3. دونوں فریقین نے سفارتی اور فوجی دونوں چینلز کے ذریعے قریبی رابطوں اور بات چیت کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس سلسلے میں، انہوں نے سینیئر کمانڈروں کی میٹنگ کا 11 واں دور جلد بلانے پر اتفاق کیا، تاکہ دونوں فریقین بقیہ متنازعہ علاقوں سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنے کی طرف کام کرسکیں۔

نئی دہلی

12 مارچ، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.